
درودِ مقدس



خرم بک ایجنسی
جلال بلڈنگ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

درودِ مقدس

جو کوئی اس درودِ مقدس کو پڑھے تو گویا کافروں کے ساتھ غزولی ہوا اور اس کے رکھنے والے کو پروردگارِ عالم مرگ مفاجات سے تپ سرد و گرم درد سر، دردِ نیم سر، دردِ پیشانی، دردِ چشم، دردِ ناخن، درد کان، دردِ کہنی، ہاتھ کے درد، دردِ پہلو، دردِ پیٹھ، دردِ شریں، ناف، دردِ جگر، دردِ شکم دردِ دل، دردِ تلی، دردِ گھٹنا، دردِ پاؤں، انگلیوں کا درد، دردِ مرگی اور تمام بلیات آسمان … اور بھوک پیاس اور تمام بیماریاں بدن کی بطفیل درودِ مقدس کے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اور اگر کسی کا نصیب بند ہو تو اس درودِ مقدس کو پڑھے یا گلے میں ڈالے یا لکھے جو کوئی اس درودِ مقدس کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے گا حق تعالے اس تمام بلاؤں، آفتوں اور بیماریوں سے اس کو پناہ میں رکھے گا۔ اگر وہ ضعیف ہو گیا ہو اور اس کا وِرد ہمیشہ رکھے تو اِنشاءاللہ عمر میں اس ترقی ہو۔ یہ مجرب ہے۔ اور یہ بھی آزمایا گیا ہے۔ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمام دریا اوّل و آخر کی سیاہی ہو اور ساتوں طبق آسمانوں و زمین و عرش و کرسی کے کاغذ ہوں، تمام درخت مشرق و مغرب کے قلم بنائے جائیں، تمام آدمی جن، دیو، پری، جانور پرندے تمام آبی جانور اٹھارہ ہزار عالم اور تمام فرشتے دعرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ کے لکھنے والے جمع ہوں اور لکھنا چاہیں تو بھی ثواب اس درودِ مقدس کا نہ لکھ سکیں گے۔ یہاں بالکل مختصر لکھا گیا ہے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ روزانہ اس درودِ مقدس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے پڑھنے سے حاجتیں دینی و دنیاوی بر آئیں گی۔ اور کل مقصد اور جملہ مطلب حاصل ہوں گے۔ اور اس میں اجر و ثواب بے حساب ہے۔ یہاں پر اس درود شریف کے فائدے بہت کم کر کے تحریر کئے ہیں۔ ہمیشہ اس درودِ مقدس کو بھی پڑھنے کی ہدایت کرو تاکہ تم پر خدا اور رسول خوش ہوں۔ بلکہ اس کا وظیفہ ہی کر لو، وہ پاک و برتر مکرم و معظم درود شریف صفحہ ۹ پر ملاحظہ فرمایئے۔

درودِ مقدس کے پڑھنے والے اور اَللّٰہ اور رَسُولؐ کے واسطے لکھنے والے اور چھاپنے والے کے لئے بھی دعا کریں کہ پروردگارِ عالم اس درودِ مقدس کے صدقے میں سچی محبت اَللّٰہ اور رَسُولؐ اور تمام بزرگانِ دین کی اس کو عطا فرمائے: آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَا اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ

وَاَفْعَالِ مُحَمَّدٍ وَّاَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّاَصْحَابِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا

اِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ وَّبَطْنِ
مُحَمَّدٍ وَّبَرَكَةِ مُحَمَّدٍ وَّبَیْعَةِ
مُحَمَّدٍ وَّبُرَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ
تَوَلُّدِ مُحَمَّدٍ وَّتَعَبُّدِ مُحَمَّدٍ وَّتَهَجُّدِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ ثَنَآءِ مُحَمَّدٍ وَّثَوَابِ
مُحَمَّدٍ وَّثَبَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ جَلَالِ
مُحَمَّدٍ وَّجَمَالِ مُحَمَّدٍ وَّجَلِّ مُحَمَّدٍ وَّ
وَجْهَةِ مُحَمَّدٍ وَّجَعْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَیْہِ وَسَلَّمْ ط یَآ اِلٰھِیْ بِحُرْمَۃِ حُسْنِ
مُحَمَّدٍ وَّحَسَنَاتِ مُحَمَّدٍ وَّحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ
وَّحَالِ مُحَمَّدٍ وَّحُلْیَۃِ مُحَمَّدٍ صَلَّی
اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ ط یَآ اِلٰھِیْ
بِحُرْمَۃِ خِلْقَۃِ مُحَمَّدٍ وَّخُلُقِ مُحَمَّدٍ
وَّخُطْبَۃِ مُحَمَّدٍ وَّخَیْرَاۃِ مُحَمَّدٍ صَلَّی
اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ ط یَآ اِلٰھِیْ بِحُرْمَۃِ
دِیْنِ مُحَمَّدٍ وَّدِیَانَۃِ مُحَمَّدٍ وَّدَوْلَۃِ
مُحَمَّدٍ وَّدَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَّدُعَآءِ مُحَمَّدٍ
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ ط یَآ اِلٰھِیْ
بِحُرْمَتِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ وَّذِکْرِ

مُحَمَّدٍ وَّذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ط یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ
رُوْحِ مُحَمَّدٍ وَّ رَأْسِ مُحَمَّدٍ
وَّ رِزْقِ مُحَمَّدٍ وَّ رَفِیْقِ مُحَمَّدٍ
وَّ رِضَآءِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ ط یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ زُهْدِ
مُحَمَّدٍ وَّزَهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَّزَارِیْ مُحَمَّدٍ
وَّزِیْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ ط یَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ سِیَادَةِ
مُحَمَّدٍ وَّسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ وَّسُنَّةِ مُحَمَّدٍ
وَّسِرِّ مُحَمَّدٍ وَّسَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ شَرْعِ
مُحَمَّدٍ وَّشَرْفِ مُحَمَّدٍ وَّشَوْقِ
مُحَمَّدٍ وَّشَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ
صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَّصَوْمِ مُحَمَّدٍ
وَّصَلٰوةِ مُحَمَّدٍ وَّصَفَآءِ مُحَمَّدٍ
وَّصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ ضِيَآءِ
مُحَمَّدٍ وَّضَمِيْرِ مُحَمَّدٍ وَّضَحَآءِ
مُحَمَّدٍ وَّضُعْفِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ

طَلْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَّطُهْ

مُحَمَّدٍ وَّطَرِيْقِ مُحَمَّدٍ وَّطَوَافِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ

بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَّظُهْرِ مُحَمَّدٍ

وَّظِلِّ مُحَمَّدٍ وَّظُهُوْرِ مُحَمَّدٍ وَّظُفْرِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ عِشْقِ مُحَمَّدٍ

وَّعَرَفَاتِ مُحَمَّدٍ وَّعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَّ

عُلُوِّ مُحَمَّدٍ وَّعَلِيْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط يَآاِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ

غُرْبَتِ مُحَمَّدٍ وَّغَارِ مُحَمَّدٍ وَّغُرَّةِ

مُحَمَّدٍ وَّغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ وَّ غَنِيْمَةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

يَآاِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ قُلِّ مُحَمَّدٍ

وَّقَدْرِ مُحَمَّدٍ وَّقَنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَّقُوَّةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

يَآاِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ فَخْرِ مُحَمَّدٍ وَّفَقْرِ

مُحَمَّدٍ وَّفِرَاقِ مُحَمَّدٍ وَّفَضْلِ مُحَمَّدٍ

وَّفَضِيْلَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

يَآاِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ

وَّكَشْفِ مُحَمَّدٍ وَّكُوْشِشِ مُحَمَّدٍ

وَّكِتَابَةِ مُحَمَّدٍ وَّكِيْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ لَيْلِ
مُحَمَّدٍ وَّلِقَآءِ مُحَمَّدٍ وَّلِيَاقَةِ مُحَمَّدٍ
وَّمُجَاهِدَاتِ مُحَمَّدٍ وَّمُشَاهِدَاةِ
مُحَمَّدٍ وَّمُلَاحِظِ مُحَمَّدٍ وَّمَسَاحَةِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآ اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ
نَازِ مُحَمَّدٍ وَّنَمَازِ مُحَمَّدٍ وَّنَصِيْرِ مُحَمَّدٍ
وَّنَقِيْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَآ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ وَ سر وُدِ مُحَمَّدٍ
وَّوَفَآءِ مُحَمَّدٍ وَّوُجُوْدِ مُحَمَّدٍ وَّوَدِيْعَةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآ اِلٰهِيْ
بِحُرْمَةِ هِبَّةِ مُحَمَّدٍ وَّهِدَايَةِ مُحَمَّدٍ وَّهَدِيَّةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ط یَا اِلٰهِیْ
بَارِکْ مُحَمَّدٍ وَّ یَکَانِیْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰہُ
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ط لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی
اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ ط بِعَدَدِ مَا ھُوَ
الْمَکْتُوْبُ فِی اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ
وَّلَیْلَۃٍ وَّسَاعَۃٍ وَّنَفْسٍ وَّ الْمُحَبَّۃِ
اَلْفِ مِائَۃِ اَلْفِ مَّرَّۃٍ اِلٰی یَوْمِ
الْعِلْمِ اَلَآ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ
عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ ○ بِرَحْمَتِكَ
یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

اِسمائے یازدہ غوثِ اَعظم دَستگیر رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِجَمَالِكَ وَجَمَالِ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَشَفِيْعِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ؕ

(۱) اِلٰهِىْ بِعِزَّةِ وَحُرْمَةِ قُطْبِ الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَيْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمِ حَضْرَتِ الْحَسَنِىِّ وَالْحُسَيْنِىِّ قُطْبِ

رَبَّانِی غَوثُ الصَّمَدَانِی مَحبُوب
حَقَّانِی سَرچَشمَہ سُلطَانِی سُلطَانِ
سَیِّدُ مُحیُّ الدِّینِ عَبدُالقَادِرِ جِیلَانِی
قُطبُ الجِنِّ وَالاِنسِ وَالمَلَآئِکَۃِ قَدَّسَ
سِرُّہُ اللّٰہُ العَزِیز ط

(۲) اِلٰھِی بِعِزَّۃِ وَحُرمَۃِ قُطبُ الاَقطَاب
غَوثُ الثَّقَلَینِ غَوثُ الاَعظَم حَضرَت
شَاہ مُحیُّ الدِّینِ عَبدُ القَادِر
جِیلَانِی شَیخُ الجِنِّ وَالاِنسِ
وَالمَلَآئِکَۃِ قَدَّسَ اللّٰہُ العَزِیزہٗ ط

(۳) اِلٰھِی بِعِزَّۃِ وَحُرمَۃِ قُطبُ الاَقطَاب

غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ
حَضْرَتْ شَاہْ مُحَیُّ الدِّیْنِ
عَبْدُ الْقَادِرْ جِیْلَانِیْ قُطْبُ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِہٖ قَدَّسَ اللّٰہُ الْعَزِیْزِہٖ ط

۴ اِلٰھِیْ بِعِزَّۃِ وَحُرْمَۃِ قُطْبُ
الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ
الْاَعْظَمْ حَضْرَتْ شَاہْ مُحَیُّ الدِّیْنِ
عَبْدُ الْقَادِرْ جِیْلَانِیْ قُطْبُ الْجُنُوْبِ
وَالشِّمَالِ قَدَّسَ اللّٰہُ الْعَزِیْزِہٖ ط

۵ اِلٰھِیْ بِعِزَّۃِ وَحُرْمَۃِ قُطْبُ
الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ

الاعظم حضرت مولٰنا محیّ
الدّین عبد القادر جیلانی
قطب المشرقین والمغربین
قدّس اللہ العزیزہٗ

(۶) الٰہی بعزّۃ وحرمۃ قطب الاقطاب
غوث الثّقلین غوث الاعظم حضرت
محیّ الدّین عبد القادر جیلانی
قطب النّجوم والشّہاب قدّس اللہ العزیزہٗ

(۷) الٰہی بعزّۃ وحرمۃ قطب الاقطاب
غوث الثّقلین غوث الاعظم حضرت
اولیآء محیّ الدّین عبد القادر جیلانی

قُطْبُ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ قَدَّسَ اللّٰهُ الْعَزِيْزِہٗ

⑧ اِلٰهِیْ بِعِزَّةِ وَحُرْمَةِ قُطْبُ الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ حَضْرَتْ خَوَاجَه مُحیُّ الدِّیْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ جِیْلَانِیْ قُطْبُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِیْ قَدَّسَ اللّٰهُ الْعَزِيْزِہٗ

⑨ اِلٰهِیْ بِعِزَّةِ وَحُرْمَةِ قُطْبُ الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ حَضْرَتْ دَرْوِیْشِ مُحیُّ الدِّیْنِ عَبْدُ الْقَادِرْ جِیْلَانِیْ قُطْبُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمْ قَدَّسَ اللّٰهُ الْعَزِيْزِہٗ

(۱۰) اِلٰهِیْ بِعِزَّةِ وَحُرْمَتِ قُطْبُ الْاَقْطَابِ
غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ حَضْرَتِ
فَقِیْرِ وَلِیْ مُحْیُّ الدِّیْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ جِیْلَانِیْ
قُطْبُ الْفَوْقِ وَالْاَرْضِ وَتَحْتَ
الثَّرٰی قَدَّسَ اللّٰهُ الْعَزِیْزِ ؕ

(۱۱) اِلٰهِیْ بِعِزَّةِ وَحُرْمَةِ قُطْبُ
الْاَقْطَابِ غَوْثُ الثَّقَلَیْنِ غَوْثُ الْاَعْظَمْ
حَضْرَتْ غَرِیْبِ مِسْکِیْنُ مُحْیُّ الدِّیْنِ
عَبْدُ الْقَادِرِ جِیْلَانِیْ رَاکِبُ
الْمَلَآئِکَةِ صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ تَابِع
النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمْ ط

يَاهَمْرَآئِيْلُ يَالُوْمَآئِيْلُ يَاطَنَآئِيْلُ

بِحَقِّ يَاشَيْخ عَبْدُ الْقَادِرْ جِيْلَانِىْ

شَيْئًالِلّٰهِ يَا مُحَمَّدٍ اَفْتَحِ الْاَبْوَابِ

اَخْبَرْنِىْ بِحَقِّ يَابُدُّوْحُ يَابُدُّوْحُ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۵ ط

بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

درود شریف قبرستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الصَّلٰوةُ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الرَّحْمَةُ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ وَصَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلٰى صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِى الصُّوَرِ وَصَلِّ عَلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَسْمَآءِ وَصَلِّ عَلٰى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِى النُّفُوْسِ وَصَلِّ عَلٰى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوْبِ وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ وَصَلِّ عَلٰى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِى الرِّيَاضِ وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلٰى تُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِى التُّرَابِ وَصَلِّ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَحْبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط

اس درود شریف کو کبرستان میں جا کر پڑھنے سے مُردوں کے ستر سال تک عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اور چار دفعہ پڑھنے سے قیامت تک اللہ تعالےٰ عذاب اٹھا لیتا ہے۔

م بک الحنفی
جلال بلڈنگ الکریم مارکیٹ اردو بازار، لاہور

درود شریف قبرستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

اللّٰھم صل علی محمد ما دامت الصلوٰۃ وصل علی محمد ما دامت الرحمۃ وصل علی محمد ما دامت البرکات وصل علی روح محمد فی الارواح وصل علی صورۃ محمد فی الصور وصل علی اسم محمد فی الاسمآء وصل علی نفس محمد فی النفوس وصل علی قلب محمد فی القلوب وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی تربۃ محمد فی التراب وصل علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی اٰلہ واصحٰبہ وازواجہ وذریتہ واھل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ط

اس درود شریف کو قبرستان میں جا کر پڑھنے سے مُردوں کے ستر سال تک عذاب اُٹھ جاتے ہیں۔ اور چار دفعہ پڑھنے سے قیامت تک اللہ تعالےٰ عذاب اٹھا لیتا ہے۔

خُرّم بک ایجنسی
جلال بلڈنگ الکریم مارکیٹ اردو بازار، لاہور